

ٹایا دہ تہ ویت یارمہ تیدہر بیت لہ پەرہ پیدانی پشتگیری بو ئه و دایک و باوکانہی کہ تازہن لہ سوید؟

بیرکردنہ و ہ ئہ زموونہ کانت گرنگن
ئیمہ دہمانہ ویت گویتان لی بگرین.
چت پیویستہ؟

کاتیک ہاتیتہ سوید پیویستت بہ چی بوو؟

ئیمہ بہدوای ئیوہدا دہگہرین بہم
شپوہیہ:

- دایک و باوکہ
- پروویان لہ سوید کردوہ
- نہخوشی دہروونی یان NPF ی ہہیہ

نہخوشی دہروونی دہتوانیت نیگہرانی، فشار یان دلہراوکی بیت.
NPF دہتوانیت ADHD یان ئوتیزم بیت.

ٹایا پشتگیری
وہرگرتوہ؟

چ یارمہ تیہکت
دہویست؟

چت پیویستہ؟

دہ تہ ویت یارمہ تیمان بدہیت؟

دہمانہ ویت چہند پرسیاریکتان لی بکہین.
تو ہلہدہ بژیریت کہ ٹایا ئیمہ:

- چاوپیکہ و تن
- لہسہر تہلہ فون قسہ دہکا
- بہ شپوہیہ کی دیجیتالی کوبنہوہ
- یان بنووسن
- تو بہ کام زمان ہلہدہ بژیریت.

پہ یوہندی:

projektledare

sara.jonaker@brackediakoni.se

0765-03 17 26

وہک سوپاسیک، کارتیک دیاری لہ ICA
بہ ۲۲۵ کرون وہردہگریت.

متمانہ - نوئی لہ سوید پروژہیہ کی نوییہ.
ئیمہ کہ لہ پروژہکدا کاردہکہین لہ:

- Bräcke diakoni
- Föteningen Tidigt Föräldrastöd
- Rädda Barnen
- Riksförbundet Attention

